

Maulana Azad National Urdu University

PhD (Botony) Course Work Examination - February-March- 2022

PHBY101CCT: Research Methodology

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

- یہ پرچہ سوالات دو حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔
1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں اس میں طالب علم کو کوئی آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے 5 نمبرات مختص ہیں۔ $(8 \times 5 = 40 \text{ Marks})$
2. حصہ دوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

حصہ اول

- کرنے میں شامل نمونے لینے کے مختلف طریقوں (Sampling Methods) کی وضاحت کیجیے۔ -1
- کسی مضمون کے Citation Count سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ -2
- ہندوستان میں تحقیق کو فروغ دینے میں CSIR کا کیا کردار ہے؟ -3
- سیل سسپنشن کلچر (Cell Suspension Culture) اور اس کی اقسام کو سمجھائیے۔ -4
- Somatic Embryogenesis کیا ہے؟ وہ کون سے عوامل (factors) ہیں جو سو میک ایکر یونٹس کو متاثر کرتے ہیں۔ -5
- پودوں کے ٹش کے نمونے کی تیاری میں فلکسیشن (fixation) کے عمل کی کیا اہمیت ہے؟ -6
- ڈبل سٹینگ (Double Staining) سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ -7
- ماکرو میٹری (Micrometry) سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آکولر (Ocular) اور اسٹینج (Stage) ماکرو میٹر کے بارے میں لکھیے۔ -8
- پودوں میں ہابریڈائزیشن (Hybridization) کے عمل میں شامل مرحلہ کی وضاحت کیجیے۔ -9
- حیاتیاتی تنوع (Biodiversity) کی مختلف سطحوں (levels) کو سمجھائیے۔ -10

حصہ دوم

- تحقیقی مسئلہ (Research Problem) سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عمومی سائنسی رپورٹ (Scientific Report) کی ساخت بیان کیجیے۔ -11
- الجی کلچر (Algae Culture) کے عمل تفصیل سے لکھیے۔ -12
- Functioning اور Principles کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ -13
- انحراف طریقہ (Anthrone Method) سے کاربونیڈریٹ (Carbohydrate) کے عمل میں شامل مرحلے کے بارے میں لکھیے۔ -14
- سینٹریفیو گریشن (Centrifugation) میں کیا اصول شامل ہے؟ Differential Density Gradient سینٹریفیو گریشن کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ -15